



## سوال

حدیث : (بدعی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو) کی شرح

## جواب

الحمد لله

سوال میں مذکور حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم : (1978) میں علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مرفاعاً بیان کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہے : (لپنے والد کو لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، غیر اللہ کیلئے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بد عیتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور زمین کے ملکیتی نشانات تبدل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو)

اس حدیث کے عربی الفاظ میں "نحویت" کا ذکر ہے اور "حدیث" [اسم] سے مراد ایسا عمل ہے جو کہ سنت نبویہ میں پسلے مترافق نہ ہو۔

اور "نحویت" "الغظ" کو " DAL " پر زبر اور زیر دونوں طرح پڑھا گیا ہے، DAL کے نیچے زیر پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہو گا کہ : جو کوئی کسی جرم کو مدعاً عیان سے پناہ دے، اور بد لینے میں رکاوٹ بنے۔

جبکہ DAL پر زبر پڑھنے کی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص کسی جرم کے تحفظ کا باعث بنے، تو اس صورت میں پناہ دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ جرم کو پسجا سمجھے اور جرم کو فخری و نظریاتی تحفظ فراہم کرے؛ کیونکہ اگر جرم اور دین میں بدعت کو پسجا سمجھا اور کرنے والوں کو نہیں روکا تو اس نے برے کام کو تحفظ فراہم کیا "چھ تصرف کیساتھ اقیاس مکمل ہوا "النها یعنی غریب الحدیث " از ابن اثیر (1/351)

شوکانی رحمہ اللہ "نیل الاولوار" (158/8) میں کہتے ہیں :

"حدیث کا الغظ : "نحویت" DAL کے نیچے زیر کیساتھ، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کے ذریعے دھرتی پر فتنہ و فساد پا کرتے ہیں، اور پناہ دینے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرعی بدله اور قصاص لینے میں رکاوٹ بنتے ہیں "

اسی طرح ابن حجر یمنی نے اس عمل کو بکیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ : " مجرموں کو پناہ دینے کا مطلب ان سے حقوق لینے کے راستے میں رکاوٹ ڈانتا ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جن سے شرعی فیصلہ لازم آتا ہے " اتسی "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/204)

مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد یہ بات واضح ہے کہ کسی کافر شخص کو رہائش دینا، اور اس کیساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مجرموں اور بدعتیوں کو پناہ دینے کے زمرے میں نہیں آتا؛ بلکہ یہ عمل انسانیت کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے جو کہ شرعی طور پر مطلوب ہے، اور اگر وہ کافر رشتہ دار بھی ہو تو ان کیساتھ حسن سلوک مزید ضروری ہو جائے گا۔

واللہ اعلم